



روژنامهیا MNPS یا نامادهی یا باخچی زاروکان

پیزانین و سەرچاوه بو پشتگیریکرنا خیزانان

نادارا ۲۰۲۴

بهشی فیرکرنا پیشومخت یا MNPS

(۶۱۵) ۲۹۸-۶۷۶۶

EarlyLearningPreK@mnps.org

نۆکه دهمی تۆمار کرنی یه بو **باخچی**! نۆکه دهمهکی باشه کۆ تۆ بو زاروکی خۆ بهحسا باخچی بکهی، و بهلگهنامین خۆ ناماده بکهی، بو وئ چهندی کۆ بشیی زاروکی خۆ تۆمار بکهی. ههروهسا، نهگه هوین هندهک دوست و خیزانان بنیاسن کۆ حمز ل سهر پروگرامی زاروکی بهری باخچی یی MNPS هه ی بو سالا ۲۰۲۴-۲۵، دهمی پینشکیشکرنا سهرمتایی ژ ۱ ناداری دهست پیندکته تاکو ۱ نیسانی یا سالا ۲۰۲۴ (۳:۳۰ پشتی نیفرۆ. دۆماهیگ ژفانی تۆمار کرنی یه).

دگهل هیقین گهرم تیما فیرکرنا پیشومخت یا MNPS



گۆشهیا چالاکیین خیزانی

ههر ههیف نهف بهشه دی پهرتوک و چالاکیین پینشیارکری دهته دییار کرن بو خیزانان.

د نۆکهدا کۆ زاروکی ته خۆ بو باخچی زاروکان ناماده دکته، دهمهکی باشه بو وان داکو تیبگههن چ چاقهریی وانابه ل باخچی. نهف پینشیار دکهن هوین فی **بخوین بنیره باخچی زاروکان! نهفه نهز هاتم ژلاین نانسى کارلسون (Nancy Carlson)**.

پشتی خواندنا پهرتوکی، دهست ب شروفهکرنا چهند جیباوازیان دناقهرا قوناخا بهری باخچی و باخچی بکه (وهکو، جهی قوتابخانی، دهمی بیهنقهدانان، ماموستا، دریزییا رۆژانین قوتابخانی). زاروکی خۆ هان بده کۆ پرسیاران بکهن.

بیروکا چالاکیان: "لیستا باخچی" دروست بکه: لیستهکی یا پینشیار باخچی دگهل زاروکی خۆ دروست بکه کۆ نهو هزر دکهن د رۆژا دهستپیکری یا باخچی دی پینتی بنی. پرسیار ژ وان بکه کا بوچی دی پینتی ب وان تشتان بن. لیستی بنفیسه و زاروکی تهژی بلا راهینانین نفیسینا وان پهیقان بکهن.



نامۆزگاری بو تۆمارکرنا باخچی

تۆمار کرن ل باخچی زاروکان MNPS ۲۰۲۴-
۲۵ هاتیبه فهکرن ل ۲۹ ی کانونا دووی.

خیزانین تۆمارکری بین نهال بهری- باخچی یی **MNPS**: تۆمار کرن ل باخچی ب ریکا **دهرگههی کامیوسی بو دهیک و بابا**.

خیزانین نوی بین **MNPS**: تۆمار کرن ل باخچی ب ریکا **دهرگههی MNPS یی تۆمارکرنا نولاین**.

تۆ پینتی ب هاریکارییی: پهیوندیی ب سهنتهری پیزانین خیزانی بکه لسهر ژمارا (۶۱۵) ۲۵۹۴۶۳۶ یان

FamilyInfo@mnps.org

ههروهسا خیزان دشین ژفانهکی وهرگرن لگهل سهنتهری ناف نفیسینی یی MNPS.

نهگهر زمانهکی دی ژ بلی زمانی نینگلیزیی دهیته بکانینان د مآدا، خیزان ههروهسا دشین پهیوندیی ب توفیسا فیزخوارین نینگلیزیی (EL) بکهن ل سهر ژمارا (۶۱۵) ۲۵۹-۸۶۰۸

ELReg@mnps.org یان

خیزان، بهرواری دهستپیشان بکهن!
MNPS 2024 رۆژ ههژمارتن ژبو پینشانهها باخچی زاروکان یا

شهیمی، ۶ نیسانی (۹:۰۰ سپیدی - ۱:۰۰ نیفرۆ)

@سهنتهری تهندروستی یا گشتی یا لینتز (Lentz Public Health Center)



بهروارین گرنگین MNPS

۱ نادرئ: [تۆمار کرن یا فہکر بیہ بۆ بہری](#)-

باخچہ ی یا MNPS ۲۰۲۴-۲۵.

۵ نادرئ: رۆژا کۆمکرنا PD (قوتابی

رپورتی نعدمن)

۸ نادرئ: نیف رۆژہ بۆ سەر جہم قوتابییان

۱۵-۱۱ نادرئ: بیہئفہدانا ہافینئ

۲۹ نادرئ: بیہئفہدانا ہافینئ (گرتنا نافچا)

۶ نیساتی: ژفانی دەستئیشان بکہ: رۆژ

[ہئمارتن ژبۆ پیشانگہہا باخچہ زارۆکان یا](#)

[MNPS](#) سہنتہری تہندروستی گشتی لینتئر ژ

دہمژمئیر ۹:۰۰ سہندئ تا ۱:۰۰ پستی نیفرۆ

پشتگیر کرن ژ بہیوہندیین

تہندروستی

شارہزایین ہہفالیینی ب ہہمان شیوہ و مگ زانینا

۱۲۳ یا ABC یا دگرنگن ژبۆ

ئامادہکاریین زارۆکی تہ بۆ باخچہی، ہندہک

جاران دروستکرنا ہہفالان بۆ ہہمی زارۆکان

نہ کار مکی ب ساناہی بہ.

دگہل زارۆکی خۆ بہحسا وئ چہندئ بکہ کۆ

ہہقبہشکرن و دہورانی، و دہورینا ہہستین

خۆبی کارین گرننگن کۆ بشین ہاریکاریان

بکہن ژبۆ پەیداکرنا ہہفالان. ہەروہسا، یا

گرننگہ کۆ ئەو بیژین سوپاس و زہمەت نہبییت،

و دگۆہدار بێن و ہہفالی خۆ نہ برن دەما د

ناخپت.

د جارا بہییت دا دەما کۆ تۆ دگہل زارۆکی خۆ

بہحسا باخچہ زارۆکان دکہی، ب جۆش بہحسا

وان ہہفالیئ نوی بکہ ئەوین کۆ ئەو دئ د

ئەزموننا قوتابخانا خۆ یا تۆ دا دروستکەن.

رۆناہی یا خیزانی

نیکی ژ مہزنترین سەرچاومیان بۆ ہاندانا فیربوونا زارۆکی تہ ل ہافینئ دا

پہرتۆکخانہ یا تہ بخۆ بہ!

پہرتۆکخانا گشتی یا ناشفیل (*Nashville*) چہندیین سەرچاومیان نایاب و بی

بہرامبہرہنہ بۆ خیزانان د ہافینئ دا. ل سەرانسہری ناچچہیا ناشفیل لقتین

پہرتۆکخانا ناخۆبی ہہنہ، وکارتا پہرتۆکخانئ بی بہرمبہرہ ئەگہر داخازیی

پربکہی.

ئەف پہرتۆکخانہ نەک بنتئ پہرتۆکان بۆ ہہمی خیزانی داہین دکہت، بہکو

دیفیدی و موسیقائ زئی تیدا ہہنہ و ہەندەک زئی دەستگہشتن ب کۆمپیوتہری زئی

پیشکیش دکەن. بنیرہ سالنامہیا بۆیہر و ناہەنگین پہرتۆکخانہیا خۆ یا ناخۆبی،

چونکو دہمئین چیرۆکان، شانویین بویکان و وۆرک شوپ/بۆیہران بۆ ہہمی

خیزانی پیشکیش دکەن.

ئەف دہمہ دہمەکی باشہ بۆ ئامادہکاریا ہافینئ و بدہستگہ ئینانا کارتا پہرتۆکخانئ

بی بہرامبہر. ہین دشین کارتا پہرتۆکخانا گشتی ناشفیل ب شیوہی ئونلاین

بدہستخۆفہ بیین [وہرگرتنا کارتا پہرتۆکخانا گشتی یا ناشفیل \(Nashville\)](#).

ہەر و ہسا، پشتراست بکہ کۆ تۆ رۆژنامہیا ناخۆبی و سایت/ سہنتہری

کۆمہلایمتی بیین ناخۆبیین خۆ بۆ بۆیہریین خیزانی ل دہفەرا خۆ ب پشکنیی.

گۆشہیا پشتگیر بییا خیزانی

ئامادہکاری بۆ باخچہ زارۆکان دشیت تشتہکی بالکیش و ئەزمونہکا پەرورہی بیت

ہہم ژبۆ تہ و ہہم ژبۆ زارۆکی تہ. نہا، دہمەکی زۆر باشہ بۆ راہینانکرنئ ل سەر

چەوانییجا جببہجئ کرنا رینما و روتینان.

ل دەستپیکئ راہینانین نیکی پینگافی د گہل زارۆکی خۆدہستپئ بکہ. بۆ نمونہ بلا

زارۆکی تہ یاریین خۆ ب دانیت. دہمی شارہزا بوون دچالاکیین نیکی پینگافی دا،

چالاکیہکا دوو پینگافی داہین بکہن. بۆ نمونہ ژ وانا بخوازہ کۆ سئفہکئ بشون و

پاشی ب خاویلہکئ وئ سئفی ہشک بکہن.

بۆ راہینانکرنا روتینہکئ، پیکفہ ہیلکاری یا روتینا رۆژانہ دروست بکہن. دەستپیکئ

ب چالاکیین سپدہہیان و مگ شوشتا دانان و شویشتنا سەرۆچاقان دەست پئ بکہ. تۆ

دشیی ہیلکاری دروست بکہی ب کیشانی یان ب بکارئینانا برینا گۆقاران بۆ نیشاناندانا

چالاکیین رۆژانہ بیین زارۆکی تہ. پشتراس بکہ کۆ ئەف ہیلکاریبہ د ئاستی دیتنا

زارۆکی تہ بیت د مالدا. دگہل زارۆکی خۆ پیداجوونئ د ہیلکاریبہ دا بکہ و ب ئہرینی

بہحسا ہمولدانیت وی بکہ بۆ وئ چہندئ کۆ ل دوہف روتینئ خۆ بچن.

ل بیرا تہبیت کۆ زارۆک لینگہری گہنجن وبۆ نیکەم جار فیردین. زارۆک پینقی ب

راہینانان ہہنہ و ئەف دہرفەتہین ہەئئ ئەزمونہکا فیربوونئ درمخسین.

بۆ پتر چالاکییان و پیزانینین
پروگرامی سەرہدانا فی
لینکی بکہ:

